

# Num

## Chapter 36

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	וַיִּקְרָבוּ	רֹאשֵׁי	הָאֲבוֹת	לְמִשְׁפַּחַת	בְּנֵי-	גִלְעָד	בֶּן-	מְכִיר	בֶּן-	מְנוּשָׁה	מִמִּשְׁפַּחַת
	اور-قريب-آئے	سردار	-آباء-کے	-خاندان-کے	بنی-	جلعاد	بن-	ماکیر	بن-	منسی	خاندانوں-سے
	<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H4940</a>	<a href="#">H1568</a>	<a href="#">H4353</a>	<a href="#">H4940</a>	<a href="#">H4519</a>	<a href="#">H4940</a>			
	בְּנֵי	יוֹסֵף	וַיְדַבְּרוּ	לְבָנָי	מֹשֶׁה	וְלִפְנֵי	הַנְּשָׂאִים	רֹאשֵׁי	אֲבוֹת	לְבָנָי	יִשְׂרָאֵל:
	بنی	یوسف	اور-بولے	-سامنے	موسی-کے	اور-سامنے	-سرداروں-کے	سردار	آباء	بنی-کے	اسرائیل
	<a href="#">H3130</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3478</a>

گھرانوں آبائی دیگر جو آئے پاس کے سرداروں ان اور موسیٰ سرپرست کے گھرانوں آبائی ہوئے نکلے سے کتبے کے یوسف بن منسی بن مکیر بن جلعاد دن ایک تھے۔سرپرست کے

2	וַיֵּאמְרוּ	אֶת-	אָדֹנָי	צִוָּה	יְהוָה	לָתֵת	אֶת-	הָאָרֶץ	בְּנַחֲלָה	בְּנוֹרָה	לְבָנָי
	اور-کہا	کو-	میرے-آقا	حکم-دیا	یہوواہ-نے	دینے-کو	کو-	زمین	میراث-میں	قرعہ-سے	بنی-کو
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0113</a>	<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H1486</a>	<a href="#">H1486</a>
	יִשְׂרָאֵל	אֶת-	אָדֹנָי	צִוָּה	בִּיהוָה	לָתֵת	אֶת-	נַחֲלַת	צִלְפַּחַד	אֶחָיו	
	اسرائیل	اور-میرے-آقا-کو	حکم-دیا-گیا	یہوواہ-میں	دینے-کو	کو-	میراث	صلافحاد	ہمارے-بھائی-کی		
	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0113</a>	<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H6765</a>	<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H0251</a>	

لְבַנְתָּיו:

اُس-کی-بیٹیوں-کو  
[H1323](#)

بھائی ہمارے کہ تھا کہا بھی یہ نے اُس وقت اُس کریں۔ تقسیم میں اسرائیلیوں کو ملک کر ڈال قرعہ آپ کہ تھا دیا حکم کو آپ نے رب کہا، نے انہوں نے۔ملنی زمین موروثی کی اُس کو بیٹیوں کی صلافحاد

3	וְהָיוּ	לְאֶחָד	מִבְּנֵי	שְׁבָטָי	בְּנֵי-	יִשְׂרָאֵל	לְנָשִׁים	וַנְּנַדְעָה	נַחֲלָתוֹ	מִנַּחֲלַת
	اور-ہوں-گی	-ایک-کو	بنی-سے	قبائل	بنی-	اسرائیل	بیویوں-میں	اور-گھٹے-گی	ان-کی-میراث	میراث-سے
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H7626</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H1639</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H5159</a>
	אֶבְתָּיו	וְנוֹסָף	עַל	נַחֲלַת	הַמִּטָּה	אֲשֶׁר	תְּהִינָה	לָהֶם	וּמִנְחָלָה	
	ہمارے-باپ-دادا-کی	اور-بڑھے-گی	پر	میراث	-قبیلے-کی	جس-کی	ہوں-گی	ان-کی	اور-قرعے-سے	
	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H3254</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1486</a>	<a href="#">H1486</a>	<a href="#">H1486</a>	<a href="#">H1486</a>	

نַחֲלָתוֹ

ہماری-میراث  
گھٹے-گی  
[H1639](#) [H5159](#)

اور گی بنے حصہ موروثی کا قبیلے اُس بے حصہ موروثی کا قبیلے ہمارے جو زمین یہ پھر تو کریں شادی سے مردوں کے قبیلے اور کسی کے اسرائیل وہ اگر گا۔جائے ہو چھوٹا علاقہ قبائلی ہمارا پھر گے۔ جائیں ہو محروم سے اُس ہم

4	וְאֵם-	יְהוּדָה	הַיְבֵלָה	לְבָנָי	יִשְׂרָאֵל	וְנוֹסָפָה	נַחֲלָתוֹ	עַל	נַחֲלָתוֹ	הַמִּטָּה	אֲשֶׁר
	اور-اگر-	ہو	-یوبل	بنی-کو	اسرائیل	اور-بڑھے-گی	ان-کی-میراث	پر	میراث	-قبیلے-کی	جس-کی
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3104</a>	<a href="#">H3254</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3254</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H4294</a>
	תְּהִינָה	לָהֶם	וּמִנַּחֲלַת	מִטָּה	אֶבְתָּיו	יְנַדְעָה	נַחֲלָתוֹ:				
	ہوں-گی	ان-کی	اور-میراث-سے	قبیلے	ہمارے-باپ-دادا-کے	گھٹے-گی	ان-کی-میراث				
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H1639</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H5159</a>				

ہے۔ کی شادی نے عورتوں ان میں جس گی جائے چلی واپس کو قبیلے دوسرے میں سال کے بحالی اگلے وہ تو بھی خریدیں بھی واپس زمین یہ ہم اگر اور گی۔ جائے نکل سے ہاتھ ہمارے لئے کے ہمیشہ وہ طرح اس



11	וַתְּהַיִּינָה	מַחְלָה	תְּרֻצָּה	וַחֲנֻלָּה	וַמְלָכָה	וְנֹעָה	בְּנוֹת	צִלְפַּחַד	לְבִי	דְדִיקָן
	اور-بوئیں	محلہ	ترصہ	اور-حجلہ	اور-ملکہ	اور-نعہ	بیٹیاں	صلافحاد-کی	-بنی-کو	اپنے-چچاؤں-کے
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H4244</a>	<a href="#">H8656</a>	<a href="#">H2295</a>	<a href="#">H4435</a>	<a href="#">H5270</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H6765</a>		<a href="#">H1730</a>

لِنָשִׁים:

بیویوں-میں  
[H0802](#)

کی شادی سے بھائیوں زاد چچا اپنے نے انہوں تھا۔ بتایا کو موسیٰ نے رب جیسا کہا ہی ویسا نے نوعاہ اور ملکہ حُجلہ، تِرضہ، محلہ، بیٹیوں کی صلافحاد

12	מִמִּשְׁפַּחַת	בְּנֵי-	מְנַשֶּׁה	בֶּן-	יוֹסֵף	הָיוּ	לְנָשִׁים	וַתְּהִי	נַחֲלָתָן	עַל-	מִטָּה
	خاندانوں-سے	بنی-	منسی	بن-	یوسف	بوئیں	بیویوں-میں	اور-ربی	آن-کی-میراث	پر-	قبیلے
	<a href="#">H4940</a>		<a href="#">H4519</a>		<a href="#">H3130</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H5159</a>		<a href="#">H4294</a>

مִשְׁפַּחַת

آن-کے-باپ-کے  
[H0001](#)

ربی پاس کے قبیلے کے صلافحاد زمین موروثی یہ لے لے اس تھے کے قبیلے کے منسی بھی وہ چونکہ

13	אֶלֶּה	הַמִּצְוֹת	וְהַמִּשְׁפָּטִים	אֲשֶׁר	צִוָּה	יְהוָה	בְּיַד-	מֹשֶׁה	אֶל-	בְּנֵי
	یہ	-احکام	اور-فیصلے-ہیں	جو	حکم-دیا	یہوواہ-نے	-ہاتھ-سے	موسیٰ-کے	کی-طرف-	بنی
	<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H4687</a>	<a href="#">H4941</a>		<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0413</a>	

יִשְׂרָאֵל

اسرائیل  
-میدانوں-میں  
موآب-کے  
پر  
یردن  
یریحو  
[H3478](#)  
[H6160](#)  
[H4124](#)  
[H3383](#)  
[H3405](#)

کے یریحو پر کنارے مشرقی کے یردن دریائے میں علاقے میدانی کے موآب وہ جب دیں معرفت کی موسیٰ کو اسرائیلیوں ہدایات اور احکام یہ نے رب تھے۔ زن خیمہ سامنے